

## حزب التحریر کے خلاف جھوٹی تہمت صرف الزام لگانے والوں کی ساکھ کو ہی مجروح کرے گی

ایسا لگتا ہے کہ اس بات کی کوئی حد نہیں ہے کہ ہندوستان کی نیشنل انٹیلی جنس ایجنسی (NIA) کو چلانے والے سرکاری اہلکار کہاں تک جھوٹ اور من گھڑت باتیں بنا کر اپنی ذمہ داری سے بے وفائی کرنے کو تیار ہیں، جس سے وہ ہندوستانی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ محض زیندر مودی اور اس کی حکومت کے بد عنوان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ اور من گھڑت باتیں کرتے ہیں۔

5 نومبر 2023 کو، NIA کے عہدیداروں نے، opindia ویب سائٹ پر ایک پریس ریلیز جاری کی، جس میں انہوں نے مئی 2023 کے ایک کیس کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے کئی مہینوں بعد، سولہ زیر حراست افراد کے خلاف اپنے الزامات کا اعلان کیا۔ اس پریس ریلیز میں الزام لگایا گیا کہ حراست میں لیے گئے سولہ مسلمان حزب التحریر کے رکن ہیں۔ اس پریس ریلیز میں ان گرفتار افراد پر ہندوستان کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے کا الزام لگایا گیا، اور اس طرح وزیراعظم زیندر مودی کی جانب سے اس تنظیم پر پابندی لگانے کے ارادے کو درست ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ (ماخذ :

<https://www.opindia.com/2023/11/modi-government-likely-to-ban-pro-hamas-terror-group-hizb-ut-tahrir/>)

مودی سرکار، جو دنیا کی "سب سے بڑی" جمہوریت ہونے کے زعم میں ہے، اختلاف رائے یا مخالف خیالات سے نمٹنے کے لیے، مخالف رائے اور خیالات رکھنے والوں پر جھوٹے الزامات لگانے کے حوالے سے دیگر جمہوری طاقتوں کی مکمل پیروی کرتی نظر آتی ہے۔ یہ حکومت حقائق تلاش کرنے، اور قانون کے مطابق سچے ثبوت پیش کرنے کی بجائے جھوٹے ثبوتوں کا سہارا لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر دوسری جمہوریت میں حکومتیں ناپسندیدہ احتجاج کو بے دردی سے کچلتی ہیں۔ یہ مجرمانہ طرز عمل امن و امان برقرار رکھنے کے بہانے کیا جاتا ہے، وہ امن و امان جو بظاہر 'نامعلوم'، مبینہ شہر پسندوں کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ یہ طرز عمل 2021 کے ہندوستانی کسانوں کے احتجاج کے دوران تسلسل کے ساتھ اپنایا گیا تھا، جہاں مظاہرین اس حوالے سے بہت محتاط تھے کہ ان کی صفوں میں کون شامل ہے، اور پہلے سے ایسے عناصر کو جانچ کر اپنی صفوں سے باہر کر دیتے تھے۔

امریکہ، جسے دنیا کی "عظیم ترین" جمہوریت سمجھا جاتا ہے، خود اپنے کرپٹ انٹیلی جنس ایجنٹوں کے کردار کے حوالے سے بہت بدنام ہے کہ وہ غیر مشکوک مسلمانوں کے درمیان پہلے اختلافی خیالات پھیلاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان خیالات سے متفق ہو جاتے ہیں تو انہیں ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ یا 'دہشت گرد سلیپر سیلز' قرار دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ میڈیا میں اس کو سنسنی خیز خبر بناتے ہیں، جس سے عوام میں ان لوگوں کا تاثر بری طرح سے متاثر ہوتا ہے جن پر الزام لگایا گیا ہوتا ہے۔ ان تمام گھٹیا حرکتوں کے باوجود، ایسے جھوٹے مقدمات ثبوتوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے برسوں بعد عدالتوں سے باہر چھینک دیے جاتے ہیں۔

دنیا بھر کی جمہوریتوں میں، ان کے متعلقہ بد عنوان انٹیلی جنس ایجنٹ خفیہ طور پر ایسے عناصر کو بھرتی کرتے ہیں جو غیر مشکوک مسلمانوں کو پھنساتے ہیں، وہ مسلمان جو سمجھتے ہیں اسلام کی بنیاد پر ہی بنی نوع انسان پر حکومت کی جانی چاہیے، یا جو محض جہاد کی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تشدد یا دہشت گردی کے کسی بھی ٹھوس ثبوت کی عدم موجودگی کے باوجود اس طرح کے غیر مشکوک مسلمانوں کو "قوم کے خلاف سازشیں کرنے" کے جھوٹے الزامات لگا کر پھنسایا جاتا ہے۔

دنیا اس بد عنوان سیکورٹی ایجنٹ کے کردار کو نہیں جان پائے گی، جس نے دھوکہ دہی سے اسلام قبول کیا اور اس گروپ کا حصہ بن گیا تھا، اور جو ترقیاتی کمیٹیوں کے قیام کی حوصلہ افزائی، سہولت کاری اور انہیں بنانے والا تھا، جن کی میڈیا میں تشہیر کی گئی۔ اور نہ ہی دنیا کو ان جبری اعترافات کے بارے میں معلوم ہوگا، جو بد عنوان ایجنٹوں کے ذریعے کرائے گئے، جب تک کہ ایک دہائی نہ گزر جائے اور پھر اس سارے مجرمانہ کھیل کے متعلق کوئی کتاب شائع ہو جائے۔

حزب التحریر کے خلاف ان الزامات کے ذریعے، NIA کے انچارج اہلکار، حزب التحریر کے کام کی غیر عسکری، فکری اور سیاسی نوعیت سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود، اپنے کام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ اپنی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی جانب سے قائم کیے گئے مقدمات میں سزاؤں کی شرح اس قدر کم ہے کہ ان

اہلکاروں نے قوم کی سلامتی کے محافظ کے طور پر اپنے کام کا مذاق اڑایا ہے۔ اس طرح کی بے ایمانی اور فریب کارانہ مہم جوئی اپنے فرض سے صریح غداری ہے۔ یہ صرف ان کے ماضی، حال اور مستقبل کی تحقیقات پر سنگین شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ بد عنوانی وقت اور ملکی خزانے، دونوں کا ضیاع ہے۔ ایجنسی کے اہلکاروں کی طرف سے اس طرح کے گھٹیا رویے، تعصب کے ساتھ ساتھ سچائی اور انصاف کی اقدار کی قیمت پر نتائج دینے کے لیے ان کی مایوسی کی غمازی کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے سامنے وہ سچائی اور انصاف کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔

مسئلہ فلسطین سے متعلق برطانیہ میں ہونے والے مظاہروں کی پشت پر حزب التحریر کے بارے میں ہندوستان میں لگائے گئے الزامات، ایک بار پھر اس حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں کہ حقیقت میں جمہوریتیں کتنی اغیر نمائندہ ہوتی ہیں۔ جب بھی اپنے لوگوں کے سیاسی موقف کی نمائندگی کرنے کی بات آتی ہے تو اس بات سے قطع نظر ہے کہ آیا وہ ریاست سب سے بڑی جمہوریت ہے، یا سب سے قدیم جمہوریت، ہر جمہوری ریاست کا یہی جھوٹ پر مبنی طرز عمل نظر آتا ہے۔ اور اب ایک بار پھر اختلاف کرنے والوں کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جمہوری ممالک میں لاکھوں لوگوں کی جانب سے صیہونی وجود کے فلسطین پر ناجائز قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کرنے کے باوجود، یہ جمہوری حکومتیں ہی ہیں جو 1917 سے یہودی وجود کے قبضے کی حمایت کر رہی ہیں، اور اسے برقرار رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو یا ہندوستان۔

حزب التحریر اپنی دعوت اور اس کے طریقہ کار کے بارے میں حقائق دنیا کے سامنے بیان کرنے سے کبھی نہیں تھکے گی، تاکہ تمام انسانیت کو حقیقت معلوم ہو جائے۔

1. حزب التحریر ایک سیاسی جماعت ہے جو اسلامی دنیا میں خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ یہ خلافت ہی ہے جو مسلمانوں کے علاقوں کو ایک سیاسی اتھارٹی کے تحت یکجا کرے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شرعی قانون کو نافذ کرے گی اور باقی بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کی روشنی کا کام کرے گی۔

2. حزب التحریر کا طریقہ کار غیر عسکری، فکری اور سیاسی نوعیت کا ہے۔ یہ شرعی بنیاد پر واجب طریقہ ہے جس سے اس نے بحیثیت جماعت نہ انحراف کیا ہے اور نہ ہی ذاتی حیثیت میں اس سے مختلف طرز عمل اختیار کیا ہے۔ اس نے پچھلے ستر سال میں ہمیشہ شرعی طریقہ کار کی پابندی کی ہے، بشمول اُن ممالک کے جہاں اس کے اراکین کے ساتھ ایسا انتہائی غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے جس سلوک کا تصور بھی مشکل ہے۔

3. امت کو بد عنوان حکومتی اہلکاروں کی جانب سے استعمال کیے جانے والے اشتعال انگیز ہتھکنڈوں سے ہوشیار رہنا چاہئے اور ان کے دھوکے میں آنے سے بچنا چاہئے، اور حزب کو حکومتی اہلکاروں کے اشتعال انگیز ہتھکنڈوں کے باوجود رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کار پر کاربند رہنا چاہیے۔ جب آپ ﷺ نے مدینہ میں حکومتی اختیار کے ساتھ اسلام نافذ کیا تو ان کی دعوت غیر عسکری، فکری اور سیاسی نوعیت کی تھی۔ جب آپ ﷺ کو عقبہ کی دوسری بیعت یعنی نصرة کی بیعت دینے والوں نے آپ ﷺ سے اہل منیٰ سے جنگ کرنے کی اجازت چاہی جو مشرک تھے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: **لَمْ نُوْمِرْ بِذَلِكَ** "ہمیں ابھی تک لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔" اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اذیت اور ایذا پر صبر کرنے کو کہا جس طرح پچھلے رسولوں (علیہم السلام) نے صبر کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، **وَلَقَدْ كُذِّبَتْ**

**رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنهَم نَصْرُنَا** اور تم سے پہلے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے اور ایذا میں پانے پر یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آئی۔" (الانعام، 6:34)

4. حزب التحریر کا قیام قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے جواب میں کیا گیا تھا جو ایک ایسے گروہ کے وجود کے متعلق آیا تھا جو نیکی (خیر) کی طرف بلائے، معروف (اچھے کام) کی دعوت دے اور منکر (برائی) سے منع کرے۔ حزب اس امید کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھے گی کہ رسول اللہ ﷺ کی بشارت کے مطابق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نبوت کے نقش قدم پر خلافت دوبارہ قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، **وَمِن النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ** "اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک (اللہ) بنا لیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  
 لَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا حَقٌّ مَّا كَانَ لَكُم مَلَائِكَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ  
 يَعْزُبُونَ عَنَّا فِي بُيُوتِهِمْ لَا يَسْتَخْرِجُونَ فِي شَيْئًا مِّنْ كَفَرٍ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُكَ هُمْ أَنفُسُهُمْ  
 كَرِهُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأَبَدُوا هَبْطًا (2)

حزب التحریر

HIZB UT TAHRIR

امت میں موجود ہر شخص 22 جلدی الاپٹا، 45 اہسانی اقدار کو اپنانے اور اس 2024/01/04 سے اور نظام کے طرہ پر 020/11/245 کرے کیونکہ  
 جمہوریت کے دیوالیہ پن، اس کی بوسیدہ اقدار، مقامی اور عالمی دونوں سطحوں پر اس کی بھرپور ناکامی اور کورونا وائرس کے دور میں شروع ہونے والے معاشی بحران کو حل  
 کرنے میں ناکامی اور غزہ کے قتل عام کے بارے میں اس کے دوہرے معیار نے اس کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ صرف اسلام ہی میں انسانیت کے تمام مسائل کا  
 حقیقی حل ہے۔ یہ وہ واحد نظریہ ہے جو معاشی، سماجی اور انسانی بحرانوں کو جنم دینے سے پاک ہے۔ اس نظریے کے لیے ہم ہندوستان کے لوگوں، مسلم اور غیر مسلم دونوں  
 سے اپیل کرتے ہیں۔ ہم مختلف سرکاری محکموں میں عقلمند لوگوں اور اپنی قوم کے لیے حقیقی فکر رکھنے والوں کو بھی اس عظیم اسلام کی طرف بلا تے ہیں، جس کے ذریعے وہ  
 اپنی قوم کو ہر آفت سے محفوظ رکھیں گے، اگر وہ واقعی اس کی تلاش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  
 الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ" (اے پیغمبر) لوگوں کو دانش اور  
 نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ۔ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے رستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی  
 خوب جانتا ہے اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔" (النحل، 16:125)



انجینئر صلاح الدین عضاضة  
 ڈائریکٹر مرکزی میڈیا آفس  
 حزب التحریر